

# مقدس جگہ حصہ ہشتم

کاپی رائٹ - ہیلن شرمپٹن 2019 - تمام جملہ حقوق محفوظ

[www.crystalsandcrochet.com](http://www.crystalsandcrochet.com)



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2019 ♥ All Rights Reserved.

نمونہ امریکی انگریزی میں لکھا گیا ہے -

## مخفف

St, sts	ٹانکا،	Sc	سادہ ٹانکا	Bl	اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں
R	چکر	Hdc	آدھا بڑا ٹانکا	Fl	اوپری زنجیر کے اگلے حصے میں
Ch	ٹانکا زنجیر	Dc	بڑا ٹانکا	Bp	ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے
Sl-st	گم ٹانکا	Tr	دو بل ٹانکا	Fp	ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے
		Dtr	تین بل ٹانکا		

اشارے آپ کی سہولت کے لئے دئے گئے ہیں جو امید ہے کہ نئے بنانے والوں کے لئے آسانی کا باعث ہوگے۔

(p) تصاویر کو اعداد سے ظاہر کیا گیا ہے

دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو بتائی گئی تعداد میں دہرائیں \* \*

یہ عام طور پر مکمل طرف کی دہرائی ہوتی ہے جس میں کئی طرح کی ہدایات شامل ہوتی ہیں

بریکٹ کے اندر دی گئی ہدایات کو بتائی گئی تعداد میں دہرائیں ()

یہ عام طور پر نچلے درجے کی دہرائی ہوتی ہے

اس نمونے میں کئی خصوصی ٹانکے استعمال کئے گئے ہیں۔ معلومات کے لئے میرے یو ٹیوب چینل پہ معلومات

حاصل کر سکتے

[YouTube Channel Special Stitches](#)

خصوصی ٹانگے -

### وی ٹانگا V Stitch

(بڑا ٹانگا - ایک زنجیر ٹانگا - ایک بڑا ٹانگا) ایک ہی ٹانگے یا جگہ میں بنائیں

### ٹانگے کے گرد اگلی طرف سے بنے دو بڑے - تین بل ٹانگوں کا جوڑا - Dc-fptrtog

بل ڈال کر بتائے گئے ٹانگے میں سے ہک گزار کہ بل ڈال کر پھندہ کھینچ لیں - بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں - ہک پہ دو پھندے ہیں - ہک پہ دو بل ڈال کر اس ہی ٹانگے کے گرد اگلی طرف سے ہک گزار کہ پھندہ کھینچ لیں - ہک پہ پانچ پھندے ہیں بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں - دو بار دہرائیں - بل ڈال کر آخری تینوں پھندوں سے اون کھینچ لیں -

### تین - بڑے ٹانگوں کا جھنڈ - 3dc cluster

ہک پہ بل ڈال کر ٹانگے سے ہک گزار کہ پھندہ کھینچ لیں - ہک پہ تین پھندے ہیں بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں - ہک پہ دو پھندے ہیں - اس عمل کو دو بار اور دہرائیں ہک پہ چار پھندے ہیں بل ڈال کر چاروں پھندوں سے اون کھینچ لیں -

### لمبا سادہ ٹانگا یا کانٹا ٹانگا Long sc or spike stitch

ہک کو ٹانگے - جگہ میں سے ایک یا کئی چکر نیچے دی گئی ہدایات کے مطابق گزار لیں - بل ڈال کر پھندہ کھینچ کہ کام کئے جانے والے چکر تک کھینچ کر لمبا کر لیں - بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں -

## ایک سو ایک چکر -

کسی بھی کونے میں بنی سیپی کے چوتھے بڑے ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں - اسپی ٹانکے میں بنائیں - (ایک زنجیر ٹانکا - ایک سادہ ٹانکا) (ایک زنجیر جگہ میں نشان بکسوا لگائیں -) تصویر نمبر ایک دیکھئے -


\*دو زنجیر ٹانکے بنائیں - (اگلے سادہ ٹانکے میں وی ٹانکا بنائیں - ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلی سیپی کے چوتھے ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں - ایک زنجیر ٹانکا بنائیں -) تصویر نمبر دو دیکھئے - چونتیس بار دہرائیں - اگلے سادہ ٹانکے میں وی ٹانکا بنائیں

دو زنجیر ٹانکے بنائیں - کونے والی سیپی کے چوتھے بڑے ٹانکے میں بنائیں - (سادہ ٹانکا - زنجیر ٹانکا - سادہ ٹانکا) \*

\*\*دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں - آخری دہرائی میں آخری کونے کا گروپ چھوڑتے ہوئے پہلے

کھڑے سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں -

ٹانکے شمار کرئیں - فی طرف - چھتیس سادہ ٹانکے - پینتیس وی ٹانکے - ایک زنجیر ٹانکے والی اڑسٹھ جگہ - دو زنجیر ٹانکے والی دو جگہ - ایک زنجیر ٹانکے والا ایک کونہ -




ایک سو دو چکر -

کسی بھی کونے میں بنے گروپ کے پہلے سادہ ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں - تصویر نمبر ایک دیکھئے -  
\*ایک زنجیر ٹانکے والی جگہ میں بنائیں (بڑا ٹانکا (ایک زنجیر ٹانکا - بڑا ٹانکا) چار بار دہرائیں) پہلے چھپے سادہ ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں -

(اگلے وی ٹانکے میں بنائیں (بڑا ٹانکا (ایک زنجیر ٹانکا - بڑا ٹانکا) چار بار دہرائیں) اگلے سادہ ٹانکے کے اوپر سے لمبا سادہ ٹانکا بنائیں -) تصویر نمبر دو دیکھئے - چونتیس بار دہرائیں -

اگلے وی ٹانکے میں بنائیں - (بڑا ٹانکا (ایک زنجیر ٹانکا - بڑا ٹانکا) چار بار دہرائیں) اگلے سادہ ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں - \*  
کھڑے سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں -  
ٹانکے شمار کرنیں - فی طرف - دو سادہ ٹانکے - چونتیس لمبے سادہ ٹانکے - پانچ بڑے ٹانکوں اور  
چار ایک زنجیر ٹانکے والی پینتیس سپیاں - کونہ سپی پانچ بڑے ٹانکوں اور چار ایک زنجیر ٹانکے والی -





## ایک سو تین چکر -

کسی بھی کونہ سیپی کے تیسرے بڑے ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں اس ہی ٹانکے میں بنائیں (ایک زنجیر ٹانکا - سادہ ٹانکا)  
(ایک زنجیر جگہ میں نشان بکسوا لگائیں) تصویر نمبر ایک دیکھئے -

\*دو زنجیر ٹانکے بنائیں - (اگلے سادہ ٹانکے میں وی ٹانکا بنائیں - ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلی سیپی کے تیسرے ٹانکے میں  
سادہ ٹانکا بنائیں - ایک زنجیر ٹانکا بنائیں) تصویر نمبر دو دیکھئے - پینتیس بار دہرائیں -

اگلے سادہ ٹانکے میں وی ٹانکا بنائیں - دو زنجیر ٹانکے بنائیں - کونہ سیپی کے تیسرے بڑے ٹانکے میں بنائیں (سادہ ٹانکا - ایک  
زنجیر ٹانکا - سادہ ٹانکا) \*

\*\*دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں - آخری دہرائی میں آخری کونہ گروپ چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے  
سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں -

ٹانکے شمار کریں - فی طرف - سینتیس سادہ ٹانکے - چھتیس وی ٹانکے - ایک زنجیر ٹانکے والی ستر جگہ - دو زنجیر ٹانکے  
والی دو جگہ - ایک زنجیر ٹانکے والا ایک کونہ -



## ایک سو چار چکر ۔

کسی بھی کونے میں بنے گروپ کے پہلے سادہ ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں ۔ **تصویر نمبر ایک دیکھئے ۔**

\*ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ ایک زنجیر والے کونے میں بنائیں (بڑا ٹانکا ۔ ایک زنجیر ٹانکا) تین بار دہرائیں ۔ پہلے چھپے سادہ ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں ۔

(اگلے وی ٹانکے میں ایک زنجیر ٹانکا بنائیں (بڑا ٹانکا ۔ ایک زنجیر ٹانکا) تین بار دہرائیں ۔ اگلے سادہ ٹانکے کے اوپر سے لمبا سادہ ٹانکا بنائیں ۔) **تصویر نمبر دو دیکھئے ۔** پینتیس بار دہرائیں ۔

ایک زنجیر ٹانکا بنائیں ۔ اگلے وی ٹانکے میں بنائیں (بڑا ٹانکا ۔ ایک زنجیر ٹانکا) تین بار دہرائیں ۔ اگلے سادہ ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں ۔ \*

\*\*دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری سادہ ٹانکا چھوڑتے ہوئے گم ٹانکے سے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں جوڑ کر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں ۔

ٹانکے شمار کرنیں ۔ فی طرف ۔ دو سادہ ٹانکے ۔ پینتیس لمبے سادہ ٹانکے ۔ تین بڑے ٹانکوں اور چار ایک زنجیر ٹانکے والی پینتیس سیپیاں ۔ ایک کونہ سیپی پانچ بڑے ٹانکوں اور چار ایک زنجیر ٹانکے والی



## ایک سو پانچواں چکر -

کسی بھی کونہ سیپی کے دوسرے بڑے ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں - اس ہی ٹانکے میں بنائیں (دو زنجیر ٹانکے - ایک سادہ ٹانکا) **تصویر نمبر ایک دیکھئے -**

\* (دو زنجیر ٹانکے بنائیں - اگلے ٹانکے میں تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں - دو زنجیر ٹانکے بنائیں - اگلی سیپی کے دوسرے بڑے ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں -) **تصویر نمبر دو دیکھئے -** چھتیس بار دہرائیں - دو زنجیر ٹانکے بنائیں - اگلے ٹانکے میں تین بڑے ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں - دو زنجیر ٹانکے بنائیں - اگلے کونے والی سیپی کے دوسرے بڑے ٹانکے میں بنائیں - (سادہ ٹانکا - ایک زنجیر ٹانکا - سادہ ٹانکا -) \*

\*\* دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں - آخری دہرائی میں آخری کونے کا گروپ چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اور کواٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں -

ٹانکے شمار کریں - فی طرف - اڑتیس سادہ ٹانکے - سینتیس - تین بڑے ٹانکوں کے جھنڈ - دو زنجیر ٹانکے والی چوہتر جگہ - ایک کونہ دو زنجیر ٹانکے والا -





## ایک سو چھ چکر ۔

کسی بھی طرف کے دو زنجیر ٹانکے والے کونے سے پہلے آخری سادہ ٹانکے میں کھڑا بڑا ٹانکا بنائیں ۔ تصویر نمبر ایک دیکھئے ۔

\*دو زنجیر ٹانکے والے کونے میں بنائیں (دو بڑے ٹانکے ۔ دو زنجیر ٹانکے ۔ دو بڑے ٹانکے) ۔ (اگلے سادہ ٹانکے میں بنائیں

ایک بڑا ٹانکا ۔ دو زنجیر ٹانکے والی جگہ میں دو بڑے ٹانکا بنائیں ۔ اگلے جھنڈ کے گرد اگلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں ۔ اگلی دو زنجیر جگہ میں دو بڑے ٹانکے بنائیں) تصویر نمبر دو دیکھئے ۔ سینتیس بار دہرائیں ۔ اگلے سادہ ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں ۔\*

\*\*دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں ۔ آخری دہرائی میں آخری بڑا ٹانکا چھوڑنے ہوئے پہلے کھڑے

بڑے ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو مت کاٹیں ۔

ٹانکے شمار کرئیں ۔ فی طرف ۔ ایک سو نوے بڑے ٹانکے ۔ سینتیس ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے بڑے ٹانکے ۔

دو زنجیر ٹانکے والا ایک کونہ ۔



ایک سو ساتواں چکر -

دو زنجیر ٹانکے بنائیں - اور اس ہی ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے تین بل ٹانکا بنائیں - (شروعاتی بڑے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے تین بل ٹانکوں کا جھنڈ) اگلے دو ٹانکوں میں بڑے ٹانکوں کے گرد اگلی طرف سے تین بل ٹانکوں کا جوڑا بنائیں -

تصویر نمبر ایک دیکھئے -

\*دو زنجیر ٹانکے والے کونے میں بنائیں (دو بڑے ٹانکے - دو زنجیر ٹانکے - دو بڑے ٹانکے) اگلے چھ ٹانکوں میں بڑے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے تین بل ٹانکوں کا جوڑا بنائیں -

(ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں - اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں) تصویر نمبر دو دیکھئے - ایک سو سات

بار دہرائیں - ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلے چھ ٹانکوں کے گرد اگلی طرف سے تین بل ٹانکوں کا جوڑا بنائیں - \*

\*\*دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں - آخری دہرائی میں آخری تین بڑے ٹانکے کے گرد اگلی

طرف سے بنے تین بل ٹانکوں کے جوڑے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے بڑے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے تین بل ٹانکوں کے جوڑے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اور کٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں -

ٹانکے شمار کریں - فی طرف - ایک سو گیارہ بڑے ٹانکے - بڑے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے تین بل ٹانکوں کے بارہ جوڑے - ایک سو آٹھ ایک زنجیر ٹانکے والی جگہ - دو زنجیر ٹانکے والا ایک کونہ -



ایک سو آٹھواں چکر -

کسی بھی دو زنجیر ٹانکے والے کونے میں کھڑا بڑا ٹانکا بنائیں - اس ہی کونے میں بنائیں (بڑا ٹانکا - دو زنجیر ٹانکے - دو بڑے ٹانکے) تصویر نمبر ایک دیکھئے -

\* اگلے آٹھ ٹانکوں میں بڑے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے تین بل ٹانکوں کے جوڑے بنائیں - (اگلی ایک زنجیر جگہ میں بڑا ٹانکا بنائیں - اگلے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے تین بل ٹانکا بنائیں) - تصویر نمبر دو دیکھئے - ایک سو سات بار دہرائیں -

اگلی ایک زنجیر جگہ میں بڑا ٹانکا بنائیں - اگلے آٹھ ٹانکوں میں بڑے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے تین بل ٹانکوں کے جوڑے بنائیں - دو زنجیر ٹانکے والے کونے میں بنائیں (دو بڑے ٹانکے - دو زنجیر ٹانکے - دو بڑے ٹانکے) \*

\*\* دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو چار بار دہرائیں - آخری دہرائی میں آخری کونے کے گروپ کو چھوڑنے ہوئے

پہلے کھڑے بڑے ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں -

ٹانکے شمار کرنیں - فی طرف - ایک سو بارہ بڑے ٹانکے - ایک سو سات ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے تین بل ٹانکے -

بڑے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے تین بل ٹانکوں کے سولہ جوڑے - دو زنجیر ٹانکے والا ایک کونہ -



حصہ ہشتم اختتام پذیر ہوا -

اس وقت کام کو بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے -

ہمارے کروشے آلونگ میں شامل ہونے کا شکریہ -

مدد اور رہنمائی کے لئے ہمارا فیس بک پیج گروپ بیلن ہکوبولک میں شامل ہو سکتے ہیں -

<https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/>

♡ برائے مہربانی اس بات کو یاد رکھئے گا کہ یہ میرا نمونہ ہے اور اس پہ کاپی رائٹ ایکٹ لاگو ہوتا ہے - آپ میرے ویب سائٹ یا ریولری سٹور کی معلومات کسی کو بھی دئے سکتے ہیں - آپ اسکا پی ڈی ایف اپنے استعمال کے لئے چھاپ سکتے ہیں لیکن برائے مہربانی اس میں کچھ بھی تبدیل یا بدل نہیں سکتے نہ ہی سٹیر کر سکتے ہیں - برائے مہربانی میرا احترام کیجیے جیسے کہ میں آپ کا کرتی ہوں -

آپکی بیلن